

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR.

Service Appeal No. 1794 of 2022.

Hamidullah S/o Khairullah Khan R/o Shao Tehsil Dir, District Dir Upper.

(Appellant)

Versus

5. The District Police Officer, Upper Dir.
6. The Regional Police Officer, Malakand at Saidu Sharif Swat.
7. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
8. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Home & Tribal Affairs at Peshawar.

(Respondents)

Index.

S: No.	Documents	Annexures	Pages
1	Para wise Comments	-	1-3
2	Affidavit	-	4
3	Power of Attorney	-	5
4	FIR's	-A-	6-9
5	Charge sheet & statement of allegation	-B-	10-11
	Final show cause notice & Dismissal order	-C -	12-13
6	Bad entries/daily diary reports	-D-	14-24



**Inspector Legal,
Dir Upper.**

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

Service Appeal No 1794/2022

Hamid Ullah s/o Khair Ullah Khan r/o Shao Tehsil District Dir Upper.....Appellant

VERSUS.

- 1) Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhawa Peshawar.
- 2) Regional Police Officer Malakand at Saidu Sharif, Swat.
- 3) District Police Officer Dir Upper
- 4) Government of Khyber Pakhtunkhawa through Secretary Home & Tribal Affairs departments, PeshawarRespondents.

کتابخانه قلمی و کتب و اسناد
کتابخانه قلمی و کتب و اسناد

Diary No. 7989

Dated 28/09/25

PARA WISE COMMENTS ON BEHALF OF RESPONDENTS.

Respectfully Sheweth:

PRELIMINARY OBJECTIONS.

- 1) That the service appeal is not maintainable in its present form.
- 2) That the Appellant has got no cause of action and locus standi to file the instant Appeal.
- 3) That the appellant has not come to this honourable Service Tribunal with clean hands.
- 4) That the present Service appeal is badly barred by law and limitation.
- 5) That this honorable Service Tribunal has got no jurisdiction to entertain the present service appeal.
- 6) That the appellant has suppressed the material facts from this honorable service tribunal.
- 7) That the Appeal is bad for mis- Joinder and non- Joinder of necessary parties.

ON FACTS:

1. Correct, to the extent of enlistment as general duty constable in the police department the rest of the para is incorrect as evident from record. The appellant being habitual violator of the laws/ rules of the mother land and previously dismissed from service. The appellant was directly charged vide FIR No. 168 dated 08.12.2021 u/s 9(D) CNSA PS Excise department Peshawar. (Previous bad entries, and copies of FIR are attached as annexure "A")

2. The appellant was proceeded against departmentally owing to his involvement in the above mention criminal case. Proper departmental enquiry was initiated and later on he was served with final show cause notice and lastly dismissed from service.(charge sheet, statement of allegation, final show cause and dismissal order are attached as annexure "B & C")
3. Incorrect, proper opportunity was provided to the appellant and the appellant was called in orderly room and heard in person but he could not produce reasonable ground in his defense. The departmental appeal filed by the appellant found groundless, hence, rightly rejected by the competent authority.
4. Incorrect, the orders of the respondent No. 01& 02 are legal, lawful and in accordance with law/ rules and the appellant wrongly invoked the jurisdiction of the Honorable Service Tribunal with un-sound grounds.

GROUNDS


- i. Incorrect, both the orders are based on facts, hence, liable to be intact.
- ii. Incorrect, prior to issuance of both the orders, proper opportunities of personal hearing were given to the appellant.
- iii. Incorrect, the appellant was the employee of the respondent department but throughout his career neither official nor any general public was satisfied from his duty and committed misconduct several times. The whole service record of the appellant is tainted with bad entries as explained in the preceding paras (copies of bad entries are annexed as "D").
- iv. The appellant being member of disciplined force badly violated the rules of the department and created a very bad atmosphere and directly charged in FIR. Also, the apex court of Pakistan in a judgment passed in CP No. 3122 of 2020 held ;

"17. the police force is a disciplined force with cumbersome accountability and responsibility of maintaining law and public order in the society and populace, therefore, any person who wants to be part of the disciplined force should be a person of utmost integrity and uprightness with unimpeachable/spotless character and clean antecedents. Despite acquittal, it is the privilege and prerogative of the employer which is in this case "Punjab Police Force". So, it is for the department to examine fairly and equitably whether the petitioner has been completely exonerated or not and his further induction may not become a constant threat to the discipline of the police force and public confidence and may also not demoralize and undermine the environment and frame of mind of the upright and righteous members of the force, therefore a person having criminal antecedents would not be fit to be restored or reinstated to his previous position or post."

- Incorrect, punishment, awarded to the appellant, is in accordance with law.
- vi. The appeal is barred by law as the Limitation Act 1908 is very much clear & the same objection has already been raised in the preliminary objections as well the the legal maxim "*Ignorantia Juris Non Excusat*" which means ignorance of the law is no excuse cannot be ignored.
- vii. That the appellant approached this Honorable Tribunal, inter-alia, with un-sound grounds. The respondents also seek leave of this honorable Tribunal to rely on additional grounds at the time of arguments/ hearing.

PRAYER:

It is therefore humbly prayed that on acceptance of this Para-wise reply, the appeal may graciously be dismissed with cost.




District Police Officer,
Upper Dir.



Regional Police Officer,
Malakand at Saidu Sharif, Swat.

Regional Police Officer,
Malakand Region,
Saidu Sharif. Swat.



Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No. 1794 of 2022.

Hamidullah S/o Khairullah Khan R/o Shao Tehsil Dir, District Dir Upper.

(Appellant)

Versus

1. The District Police Officer, Upper Dir.
2. The Regional Police Officer, Malakand at Saidu Sharif Swat.
3. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
4. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Home & Tribal Affairs at Peshawar.


(Respondents)

Affidavit

I, Gul Zamin Khan, Inspector Legal do hereby solemnly affirm and declared that the contents of parawise reply are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this honorable Tribunal.


DEPONENT
Gul Zamin Khan,
Upper Dir.

28 SEP 2023



BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR.

TRIBUNAL PESHAWAR.

Service Appeal No. 1794 of 2022.

Hamidullah S/o Khairullah Khan R/o Shao Tehsil Dir, District Dir Upper.

(Appellant)

Versus


1. The District Police Officer, Upper Dir.
2. The Regional Police Officer, Malakand at Saidu Sharif Swat.
3. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
4. Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Home & Tribal Affairs at Peshawar.

(Respondents)

Power of Attorney


We, the undersigned do hereby authorized Gul Zamin Khan, Inspector Legal to appear on our behalf before the honorable Service Tribunal in the cited above case on each and every date.

He is also authorized to file Para-wise comments/ reply, prefer appeal and to submit the relevant documents before the Tribunal.


District Police Officer,
Upper Dir.


Regional Police Officer,
Malakand at Saidu Sharif, Swat.

Regional Police Officer,
Malakand Region,
Saidu Sharif, Swat.


Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.

ابتدائی اطلاعی رپورٹ

ابتدائی اطلاع نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ اور مقدمہ 168 مجوزہ شاہدہ ہدائی

رقم پروت	168	تاریخ وقت وقوعہ	12.08.08	وقت	08:25	مقام	کراچی
رقم پروت	168	تاریخ وقت وقوعہ	12.08.08	وقت	08:25	مقام	کراچی
رقم پروت	168	تاریخ وقت وقوعہ	12.08.08	وقت	08:25	مقام	کراچی
رقم پروت	168	تاریخ وقت وقوعہ	12.08.08	وقت	08:25	مقام	کراچی
رقم پروت	168	تاریخ وقت وقوعہ	12.08.08	وقت	08:25	مقام	کراچی
رقم پروت	168	تاریخ وقت وقوعہ	12.08.08	وقت	08:25	مقام	کراچی

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو۔ اس وقت ایک شہری سراسرہ معائنہ

افسٹر محمد رمضان نے دست زدی علی جان خان، ساحلی فیاض، سابق سپر مسبحہ مول ہوکر بدستوں ذیل سے مشورہ کیا کہ ایک انٹر امروہ میں مہر زدی علی خان کا نشانہ لان فیاض سپر اور دیگر بغری انکسائے سے حادثہ وقوعہ والا بہر تسلیمہ سارکو ٹیکس جیکنگ بمطابق حادثہ وقوعہ الوقت صدر کے موجود ہے کہ مشاہدہ کی طرف سے سواروں کا کو سٹر نمبری 5314-LEI-18 مشاہدہ کی طرف سے آنا ہوا

فرض جیکنگ راکو کر سٹ نمبر 9 نمبر ایک ٹی وی ڈھانچے ہوا جس کے پائچہ اور گود میں ایک بیگ رنگ ہلکا گریں تھا۔ وہ باقی ایٹاٹا محمد اشرف خان ساکن شاد ڈاکھانہ دیر در شادی تحصیل دیر ضلع ایر ڈیر تھلا۔ بیگ کے اندر کتڑ، اور ایک بلاسٹک شاپر رنگ سٹری جمن (7) عدد اردو مائیں سٹریں میں بیسی بیوٹ ہر آئی ہوکر نذر اٹھنے ڈبیشن سکین وزن کر کے یہ دو عدد بیگٹ 1200/1200 گرام جبکہ دوسرے عدد بیگٹ 600/600 گرام فی کل 3600 گرام حیرس برآمد ہوئے

میں حیرس کے عدد ایک بیگٹ سے 3/5 گرام حیرس فرض تقریباً 10 فیڈ ہارسل ہر اتنا جبکہ بقا حیرس وزن 3600 گرام نہ ہارسل ہر 5 من بعد بیگ و سٹری بلاسٹک شاپر جمن کے ہی تھے

مند سرطیم کر کے اور خورد پھر ایسی ٹیڈ ریاضی اندر رکھا جا کر پڑے عدد مواہم تمام ہارسلوں پر قبضہ کر

جاہ تلالہ شی ملنگ بمطابق فرد قاض ایک انٹر پولیس میں کتڑ ملنگ محمد شاہ و لدر خیر واللہ خان کا پولیس کانسٹیبل ایر دیر حال قصانہ شہر بمیل ایر دیر کو مرکز ڈرا بالائیا جا کر حسب معائنہ گرفتاری کتڑ گرفتاری حیرس کتڑ سراسرہ، فرد مذکورہ کتڑ گرفتاری، درخواست الٹا، جملہ ہارسل ہر اصل کے، پولیس کتڑ کتڑ سمیت ملنگ دیر گرفتاری زدی علی خان، سابق فیاض، سابق سپر ایر سال قصانہ سے مقدمہ درج کر کے تفتیش کی جاوے P.T.O

Aleza Text

30-08-2011
03462548124

ابتدائی اطلاعی رپورٹ مستغنیث

مجموعہ ضابطہ فوجداری
دہلی

وقت 01:15

ضلع
پشاور

420 تاریخ 08.10.04 وقت 05:30

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

نوع حال اگر کچھ ایسا ہو جو غائب ہو گیا ہو یا کسی اور جگہ پر ہو گیا ہو

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث ولد مستغنیث قوم چترال اصل پسر تھیں 15 سال کی عمر میں

مستغنیث

Attest

لنگا

لنگا

لنگا

لنگا

لنگا

لنگا

لنگا

آبندی اطلاع...
 20:30 وقت
 23/07/1915
 384

تاریخ: 23/07/1915
 وقت: 20:30
 موضوع:
 506/440/427-1481
 1 گھنٹہ

بے بسیل ڈائری

سے روانگی کی تاریخ و وقت
 معروضی وقت والا مدعی/مخبر ابتدائی اطلاع
 38/08 سال
 1915
 24/07/1915

CHARGE SHEET.


I Atiq Ullah Khan Wazir , District Police Officer, Dir Upper, as competent authority, as per DD report, you constable Hamid Ullah No. 237 while posted in PS Sheringal is involved in case vide FIR No. 168 dated 08.12.2021 u/s 9DKPCNSA PS Excise, Peshawar Division. So this amounts a gross misconduct on your part.

2. By reason of the above, you appear to be guilty of criminal act and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in Rule-4 of the Disciplinary Rules 1975.


3. You are therefore required to submit your written reply within 07 days of the receipt of this charge sheet to the enquiry Officer.

4. Your written reply, if any should reach to the Enquiry Officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case the ex-parte action shall follow against you. Intimate as to whether you desire to be heard in person or not?

6. Statement of allegation is enclosed.


(Atiq Ullah Khan Wazir)
District Police Officer,
Dir Upper.

No. 1917-18 /SB, Dated Dir Upper the 28/12/2021.
Copy to Constable Hamid Ullah No. 237 while posted in Sheringal, submit your reply to the Charge Sheet with stipulated period.


Attested

2-3-21
arded to:-
roceeding, agf

DISCIPLINARY ACTION.

I Atiq Ullah Khan Wazir, District Police Officer, Dir Upper, as competent authority, is of the opinion that Constable Hamid Ullah No. 237, have rendered him liable to be proceeded against departmentally as he has committed the following acts/omission as defined in Rule-2 (iii) of Police Rule 1975.


STATEMENT OF ALLEGATION.

Whereas, you constable Hamid Ullah No. 237 while posted in PS Sheringal is involved in case vide FIR No. 168 dated 08.12.2021 u/s 9DKPCNSA PS Excise, Peshawar Division. So this amounts a gross misconduct on his part.

2. For the purpose of scrutinizing of the said accused with reference to the above allegations, **Mr. Ghulam Sadiq, SDPO Kohistan** is appointed as the Enquiry Officer under the said Rules.

3. The Enquiry Officer shall conduct proceeding in accordance with provision of Police Rule 1975 and shall provide reasonable opportunity of defense and hearing to the accused official, record its findings and make within fifteen days (15) days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or other appropriate action against the accused official.


4. The accused official shall join the proceeding on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer.


(Atiq Ullah Khan Wazir)
District Police Officer,
Dir Upper.

No. 1917-18 /SB, Dated Dir Upper the 28/12 /2021. ✓

Copy of the above is forwarded to:-

1. The Enquiry Officer for initiating proceeding against the accused official under Police Rule, 1975.
2. Concerned defaulter official.

Attested


(03
20 جولائی 2022)


OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER,
UPPER DIR

FINAL SHOW CAUSE NOTICE.

No. 02 /EB, Dated Upper Dir the 16 /03 /2022.

1. **Whereas**, you Constable Hameed Ullah No. 237 while posted in PS Sheringal, committed gross misconduct as defined in section of Khyber Pakhtunkhwa Removal from Service (Special power) Police Rules, 1975 (defined under rule-4(b)), resultantly your was Charge Sheet/Statement of Allegation were issued and DSP Ghulam Sadiq was appointed as Enquiry Officer to conduct proper departmental enquiry.
2. **Whereas**, The Enquiry Officer finalized the Enquiry proceeding given you full opportunities of defence. The Enquiry Officer held you guilty of the charge leveled against you as per charge sheet.
3. **And whereas**, Ongoing through the finding and recommendation of Enquiry Officer. The material placed on record and other connected papers including your defense before the said Enquiry Officer. I am satisfied you have committed the misconduct and are guilty of the charge leveled against you as per statement allegation conveyed to you vide this Office Memo: No. 1917-18/SB dated 28.12.2021 which stand proved and render you liable to be awarded punishment under the said rule.
4. Now therefore, **I Nazir Khan, District Police Officer Dir Upper**, as competent authority have tentatively decided to impose upon you, any one or More penalties, including the penalty of Dismissal from service under the said rule.
You are therefore, required to show cause within seven days of the receipt of this notice, as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you, failing it shall be presumed that you have no defense to offer and ex- party action shall be taken against you. Meanwhile also intimate whether you desired to be heard in person or otherwise.

Attested
Mr. 2


District Police Officer,
Upper Dir.

in section of Khyber Pakhtunkhwa Removal from Service
power) Police Rules, 1975 (defined under rule-4(b)), resultantly your was Charge
atement of Allegation were issued and DSP Ghulam Sadiq was appointed as
Officer to conduct proper departmental enquiry.


s, The Enquiry Officer finalized the Enquiry proceeding given you full
ities of defence. The Enquiry Officer held you guilty of the charge leveled against
er charge sheet.

areas, Ongoing through the finding and recommendation of Enquiry Officer. The
placed on record and other connected papers including your defense before the
iry Officer. I am satisfied you have committed the misconduct and are guilty of
e leveled against you as per statement allegation conveyed to you vide this Office
o. 1917-18/SB dated 28.12.2021 which stand proved and render you liable to be
unishment under the said rule.

efore, I **Nazir Khan, District Police Officer Dir Upper**, as competent authority
tively decided to impose upon you, any one or More penalties, including the
Dismissal from service under the said rule.

erefore, required to show cause within seven days of the receipt of this notice,
the aforesaid penalty should not be imposed upon you, failing it shall be
hat you have no defense to offer and ex- party action shall be taken against you.

: also intimate whether you desired to be heard in person or otherwise.


District Police Officer,
Upper Dir.



9

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
UPPER DIR.

ORDER.

This order will dispose of the departmental Enquiry conducted against Constable Hameed Ullah No.237 while posted in PS Sheringal.

Allegations leveled against the above named defaulter (Constable Hameed Ullah No.237 while posted in PS Sheringal, whereas 3600 Chars were recovered from his possession, where a proper case FIR dated 08.12.2021 U/S 9DKPCNSA PS Excise Peshawar was registered was suspended and closed to Police Lines vide this office O.B No. 8 dated 28.12.2022. So the above act amounts to gross misconduct on the part of the defaulter. Therefore, the charge sheet coupled with statement of allegation against him and Mr. Ghulam Sadiq SDPO Kohistan, Upper Dir was approved by the Enquiry Officer.

During the course of departmental enquiry, the enquiry officer recorded statement of the defaulter official. The Enquiry Officer submitted his finding report that he is guilty of the charges level against him. The allegations were proved beyond in shadow of doubt.

On the perusal of the finding report, the defaulter Constable Hameed Ullah issued Final Show cause Notice vide this office No. 02/EB, dated 16.12.2022. The reply of the same was perused and found unsatisfactory. The defaulter was called in orderly room and heard in person, but he could not produce any plausible evidence in his self-defense in this regard. More over following grounds are also observed.


01. The defaulter has been arrested by the Police Party No. 100/2022 having 3600 Narcotics (Chars) in his bag.
02. The case of the defaulter constable is heinous.
03. The act is grievous which is not only effects as individual but also effect badly the whole society and the Department.
04. The defaulter caused a bad name for Police Department.

Therefore, Keeping in view the recommendation of the Enquiry Officer and material on the record, I Nazir Khan, District Police Officer, Upper Dir (Competent Authority) in exercise of powers vested in me under Police Rules-1975 (amended in 2014) and Police Rules 2017, hereby dismissed the defaulter Constable Hameed Ullah No. 237 from Police service with immediate effect.

Order announced.

O.B. No. 254

Dated: 15-04 /2022


District Police Officer
Upper Dir.

پویش لائن

دفعہ نمبر ۲

نمبر ۳۵ روزنامہ ۲۴/۶/۱۷

سہ ۲۵ دپورٹ ۵۱ مورخ ۲۴/۶/۱۷ وقت ۱۴:۱۵ بجے درج ذیل کیس
 عبداللہ بنہ ۲۳۷ جو خواجہ ۱۷ روزنامہ ۲۳/۶/۱۷ سے بدستور غیر طالعہ
 اور روزنامہ سے کئی کئی منکوردہ بالا کے حالات کو مندرجہ ذیل میں جوارج
 عدتہ ۳۸۴ مورخ ۲۳/۶/۱۷ پر AP 506-440-427-148-119 کے تحت درج میں FIR
 درج ہے چکا ہے۔ کئی منکوردہ کو تادم درج میں سب ضابطہ گرفتار
 ہو کر سب جیل میں بھجوا دیا گیا ہے۔ دپورٹ کے درجہ ذیل کیس میں
 نمبر علیحدہ صورت میں مندرجہ ذیل کیس کا درجہ آدھران بالا کے تحت
 میں ارسال کیا گیا ہے۔ ضیا علی!

فصل عدالت اول

Sir.

masi - PL - Biz (U)
 24 - 6 - 17

Forwarded

U
 29 - 06 - 17

Forwarded Pl:

[Signature]
 DSP
 30/6/17

DSP HQ

Open Swan Case
 3 dependant proceedings

[Signature]
 DSP HQ

Attest

09/07/17

[Signature]
 DSP HQ

260

غیر حاضر ہوا

تقریباً 14 اور تا 25 3/018

یاضری MASI جون 25 3/018 وقت 12:15 بجے رسوقت نہیں
 عید الاضحیٰ 237 غیر حاضر شدہ بحوالہ 23 روز تا 24 3/018
 سے آج حاضر آکر یہاں تک یہ گھروں بیماری سے غیر حاضر
 رہ چکا ہوں۔ آج حاضر آ رہا ہوں۔ میرا حاضر کیا وقت انور شہزاد نے
 یہ مذکورہ ہی حاضر کیا جزے روز تا 23 جو کہ دو تقریرات حاضر کیا
 غیر حاضر کیا حضور ضابطہ کاروائی آفسران بالا سے صرف حاضر کیا

جانب 13

تقریباً 14

25/3/18
 25/3/18

SIN

pro warded

Law SKO PS Hall

25-3-18

one day absence & leave without pay.

DSP HOD

10-4-

جناب عالی!
 کتبیل مذکورہ ایک یوم غیر حاضر
 رہ چکا ہے۔ بلا تفریح و تفریح سفارش

کیا ہے۔
 Sd/- Sdpo Kohistan
 08-04-18

AT 5/5/18
 2

OB No. 260

10-05-2018

صالح دیر والا
- + -

3
تقلید 23 روزنامہ 24-018

مال

23 اپریل 2018 MASI 24 وقت 3
18 و 25 بجے اس وقت کسٹمان محمد اللہ
غیر صغریٰ حزب اللہ 25 کو سرکار ڈیوٹی کیلئے طلب کیے گئے۔ قضا کے حدود اور
بازت کسٹمان میں بیتہ ہوا۔ مگر یہی بھی دستیاب نہ ہو سکے
مذکورین کے مورتل فیڈرٹ پر ہی رابطہ کر رہی کوشش کی گئی مگر مذکورین
کان لوہہ کرانے مورتل فون فیڈرٹ بند کئے گئے ہیں۔ سرپرست مذکورین
آخلاف اپریٹ غیر صغریٰ درج روزنامہ کر کے آمد پر تفصل بیانات لے
حاکر ہر دو تقلیدات غیر صغریٰ/ صغریٰ لغرض مناسب کاروائی افسران والا
فدیہ میں ارسال کیا گیا۔

ضابطہ ای
نقل عطا علی اصل ہے

Amte P S
24-3-018

Attest
No. 2

تاریخ 17 جون 2017ء اور تاریخ 23 جون 2017ء

17-18 جون 2017ء کو حوازیہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس وقت کنوینشن کے دوران 237 کو سرکاری طور پر ایجنڈا طلب کیا گیا۔ مگر کنوینشن کے دوران عدم موجودگی یا گیا۔ کافی مصلحت اور دست برداری کی گئی لیکن اصل سبب سے دست برداری کے خلاف ایجنڈا کو حوازیہ میں منعقد کیا گیا۔ اس وقت کنوینشن کے دوران 237 کو سرکاری طور پر ایجنڈا طلب کیا گیا۔ مگر کنوینشن کے دوران عدم موجودگی یا گیا۔ کافی مصلحت اور دست برداری کی گئی لیکن اصل سبب سے دست برداری کے خلاف ایجنڈا کو حوازیہ میں منعقد کیا گیا۔

تقریریں لکھی گئی ہیں۔

MMP/DM/11
23-6-017

Attested
[Signature]

S/O
Ferdous
[Signature]

28-6-2017

کال ایس ایف

15

تقدیر سنیائی 12/16

145

نکاح

29 مارچ 2016ء سے 16 مارچ 2016ء تک کیلئے سنیائی 145 غیر ملکی
بمقام سنیائی 9/16 مارچ 2016ء کو سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران
کیوں کہ غیر ملکی سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران
سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران

تفصیل غیر ملکی

تقدیر سنیائی 9/16
سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران
(40) - (19) - (02)

29 مارچ 2016ء سے 16 مارچ 2016ء تک کیلئے سنیائی 145 غیر ملکی
بمقام سنیائی 9/16 مارچ 2016ء کو سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران
کیوں کہ غیر ملکی سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران
سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران سنیائی کے دوران

سنیائی کے دوران

تفصیل سنیائی کے دوران

MASI - Pl. Swat
13-03-16

سنیائی کے دوران

تفصیل غیر ملکی سنیائی کے دوران

Lo - Pl. Swat
13-03-16

Sir Forwarded

[Signature]

RI
JIS POLICE LINE
District Swat
17-3-16

[Signature]

Absence Period Counted as
Leave W/out Pay

[Signature]
DPO/Swat
28-3-16

03 20 05
28-3-16

Sir His absence period
may be counted as

[Signature]
DSPA Swat
24-03-16

جاوید اقبال تحصیل
پولیس لائن کیل سوات

تقلی 62 روزنامہ 15/2/16

مہر 62 صافری ما وقت 20:10 سے صبح 15/2/16 اس وقت نیکل محمد اللہ
محمد صافری نے بحوالہ مہر 62 روزنامہ 15/2/16 سے صافری کو جو محمد صافری بیاری
دستخط انگریز سے مہر 62 کی صافری سے روزنامہ کی گئی تصدیق مہر صافری

تقلی 62 روزنامہ 15/2/16
30 - 23 - 01

مہر 62 رپورٹ محمد صافری ما وقت 20:40 سے صبح 15/2/16 روزنامہ مہر
محمد اللہ 145 کی 2 یوح رخصت گھر خود سے والی مطلوب تھی۔ کافی رشتہ
کے باوجود مہر 62 نا حال حاضر میں آگیا۔ لہذا رپورٹ مہر 62 کی صافری
رپورٹ مہر صافری سے روزنامہ کی گئی

خاتہ عالی

تقلی محمد اقبال

روزنامہ مہر 62 کی صافری کی گئی

MAsri P. Swat
11-02-2016

Lo/Swat
17/2/16

Sir

Forwarded

Sir
His absence period may be
counted as L.W.O pay

[Signature]

RI
JIS POLICE LINE
District Swat
17-02-16

4

At least
DPO/Swat
17-02-16

Absence Period Counted as
Leave Without Pay

OB NO 33
24-2-16

[Signature]
DPO/Swat
24-2-16

فصل نمبر 11

نقل نمبر 20 دفتر تاریخ 2/08/08

مرد 20 راجہ محمد قاضی صاحب صاحب
 درجہ عقیدہ شیطان کل مزارف صاحب
 291 شمارہ نمبر 1270 کو بحوالہ مرد 8 یا لا یوفی دینہ خون علیہ
 شہداء کیس پولیس لائن دیر بالا دو دفتر مستحقہ کا مال
 قاضی زبیر صاحب شیطان بالوائے قدارف راجہ
 محمد قاضی درجہ دفتر تاریخ 2/08/08
 نے مآثر نقلت آفرین بالوائے قدرت سب اسرار

جائزگی صاحب

نقل نمبر 20 دفتر تاریخ 2/08/08

AP
 AMHC. Ps. Thall
 28-08-08

Sir
 Forwarded
 PS Thall
 28/8/08

8 بجے وقت 09:40 بجے وقت مسلمان کچھیل کی دستہ
 آگے، سکور بہارٹی فوج میرٹھ ضلع بمقام قریب 17/18 سال بوقت
 اگر یہ موجودگی لگتی تھی، سنبل اور علی بی بی 4081 یوں اور ٹی کے ملک
 عہد قریب 5/6 فٹ قبل قتل واقعہ والد نام علی اس کے والد
 تو یہ وہی ہے۔ عہد قریب سال قبل دوران مردم شماری
 یہ پولیس اہلکار نے کہا ہے۔ گھر مردم شماری کے مسلح تھا اور اس
 ساتھ جاتے ہوئے، دنیا کو بائیل منہ کاٹنے پر تیار تھے اور پھر ان کا
 گھر کاٹنے لگے۔ وہی کاٹنے اور ٹھکانے کو بائیل منہ کے
 میں نے، دنیا نام عہد عرف عباس تیار باور عہد سے کیا تو جیسے
 قاعدہ کے عہد سے تھا تو وقتاً فوقتاً فون پر رابطہ قائم تھا۔
 عہد گورنر اور ملاقات کرنے پر زور دے کر شب گذشتہ مذکورہ
 ملک میں اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے بوقت قریب
 وہ عہد سے گھوٹے اندر داخل ہو کر عہد سے گھر اور عہد سے
 اس میں شب شب میں ٹکے رہتا تھا۔ عہد سے گھر کو ساتھ ساتھ
 کے خاطر دروازہ کھول کر عہد سے گھر کو ساتھ ساتھ
 پورے میں موقع غنیمت جان کر جان بوجھ کر سے نقل رفیق
 کے وہی ہیں۔ عہد سے گھر کے ساتھ ساتھ وہی جان
 شدہ وارن سے شدہ یہ جان بوجھ کر سے نقل رفیق
 کے وہی ہیں۔ عہد سے گھر کے ساتھ ساتھ وہی جان
 شدہ وارن سے شدہ یہ جان بوجھ کر سے نقل رفیق

دولت
 س
 نصیب

میں
 س
 س

Attestation
 Attestation
 Attestation
 04.08.018
 8-018
 8-018

جلد دیر والا

نقلہ 19 اوزنامہ 28/7/18

صفحہ

19 اوزنامہ غیر فارسی SAHO صبح 28/7/18 وقت 18:10 تک اس وقت
 شہزادان اوزاعلی 1329، امام اللہ 650، کاروان اللہ 237،
 شمارہ 1270، صلح الدین 291، لعل شہزاد 480، کاروان اللہ 237،
 طلبہ کے لئے - بارش شہزادان اور حدود حکام میں عید کے لئے ہفت روزہ
 دستاویز ہو سکتی ہیں اور اس کو بار بار سچا یا دیکھ کر ایک بار
 صورت میں - اور شہزادان کے بارے میں - سر دستہ کے لئے
 2 - خلاف اوزنامہ غیر فارسی دین اوزنامہ لکھنے اور برقعہ لکھنے میں
 کارخانہ فارسی کے دفتر صاف - کارخانہ موزوں کو بنیاد پر مبنی
 میں جیسا کہ حکم موصول ہو گا فارسی دین اوزنامہ ہوا کرے دو نقلہ
 فارسی / غیر فارسی لغوی کتابیں کارخانہ اشرفیہ لائبریری میں
 کتاب خانہ

نقل کتابیں اصل سے

mm 1/3 Th all
28/7/18